

ڈیلی بولے جانے والے 1000 انگلش فقرات

He is physically fit.

وہ جسمانی طور پر تندرست ہے۔

We need oxygen for breathing.

ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔

Physical exercise is necessary for health.

جسمانی ورزش صحت کے لئے ضروری ہے۔

How are you today?

تم آج کیسے ہو؟

His condition is improving.

اس کی حالت سدھر رہی ہے۔

He has a cold.

اسے زکام ہو گیا ہے۔

What is he suffering from?

اسے کیا بیماری ہے؟

He is feeling sleepy.

اسے نیند آرہی ہے۔

This is an infallible remedy against fever.

یہ بخار کی مجرب دوا ہے۔

Did you take the medicine?

کیا تم نے دوا لی؟

Many counterfeited coins are in circulation these days.

آجکل بہت سے کھوٹے سکے چل رہے ہیں۔

What is the time by your watch?

آپکی گھڑی میں کیا وقت ہے؟

My watch loses fifteen minutes in twenty-four hours.

میری گھڑی ۲۴ گھنٹے میں پندرہ منٹ پیچھے رہ جاتی ہے۔

I can say it to his face.

میں یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں۔

ڈیلی بولے جانے والے 1000 انگلش فقرات

It is a forged cheque.

یہ جعلی چیک ہے۔

He fell head long and died.

وہ سر کے بل گرا اور مر گیا۔

Write in ink.

سیاہی سے لکھو۔

Please switch off the light.

براہ کرم روشنی بند کر دیجئے۔

Blow your nose.

ناک صاف کرو۔

We ate to our fill.

ہم نے پیٹ بھر کے کھایا۔

Amjad has been dismissed from service.

امجد کو نوکری سے ہٹا دیا گیا۔

One should always be cautious about choice of profession.

آدمی کو اپنا پیشہ ہوشیاری سے چننا چاہیے۔

Would you put up my name for this job?

کیا آپ میرا نام اس نوکری کے لئے پیش کریں گے؟

Which year Amjad is going to retire?

امجد کس سال ریٹائر ہوگا؟

Fortune turns like a wheel.

قسمت چکر کی طرح بدلتی ہے۔

Your watch has gone out of order.

آپ کی گھڑی خراب ہو چکی ہے۔

He could not pocket/bear this insult.

وہ اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا۔

I always travel by train.

میں ہمیشہ ٹرین سے سفر کرتا ہوں۔

ڈیلی بولے جانے والے 1000 انگلش فقرات

This cloth will wear long.	یہ کپڑا لمبا چلے گا۔
The truck ran into the wall.	ٹرک نے دیوار میں ٹکرا کر دی۔
Has the washer-man brought the wash?	کیا دھو بی دھولائی لے آیا؟
Trim my beard slightly.	میری داڑھی زرا اچھوٹی کرو۔
Comb your hair properly.	اپنے بالوں کو ٹھیک طرح سے کنگی کرو۔
You have torn this shirt.	تم نے یہ قمیض پھاڑ دی۔
Wash your hands in the wash basin.	اپنے ہاتھ واش بیسن میں دھو۔
Put your clothes in the wardrobe.	اپنے کپڑے الماری میں رکھو۔
Use the press carefully.	استری کو احتیاط سے استعمال کیجئے۔
Milk is the best food for children.	دودھ بچوں کے لئے بہترین غذا ہے۔
The knife is blunt.	چاقو تیز نہیں ہے۔
Boil the water before drinking.	پانی کو پینے سے پہلے ابالے۔
Amjad likes coffee very much.	امجد کو کافی بہت پسند ہے۔

ڈیلی بولے جانے والے 1000 انگلش فقرات

This cloth will wear long.	یہ کپڑا لمبا چلے گا۔
The truck ran into the wall.	ٹرک نے دیوار میں ٹکرا کر دی۔
Has the washer-man brought the wash?	کیا دھو بی دھولائی لے آیا؟
Trim my beard slightly.	میری داڑھی زرا اچھوٹی کرو۔
Comb your hair properly.	اپنے بالوں کو ٹھیک طرح سے کنگی کرو۔
You have torn this shirt.	تم نے یہ قمیض پھاڑ دی۔
Wash your hands in the wash basin.	اپنے ہاتھ واش بیسن میں دھو۔
Put your clothes in the wardrobe.	اپنے کپڑے الماری میں رکھو۔
Use the press carefully.	استری کو احتیاط سے استعمال کیجئے۔
Milk is the best food for children.	دودھ بچوں کے لئے بہترین غذا ہے۔
The knife is blunt.	چاقو تیز نہیں ہے۔
Boil the water before drinking.	پانی کو پینے سے پہلے ابالے۔
Amjad likes coffee very much.	امجد کو کافی بہت پسند ہے۔